



سوال

میں ایک سرکاری ملازم ہوں، آج کل ہمارے دفتر میں کام نہیں ہے اور مجھے روزانہ 62 کلومیٹر فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، ان حالات میں اگر میں دفتر نہ جاؤں اور حاضری لگتی رہے تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟

جواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد!

آپ حکومت کے ملازم ہیں۔ حکومت آپ کو ذمے داری (ڈیوٹی) ادا کرنے کی تنخواہ دیتی ہے۔ آپ پر واجب ہے کہ مکمل دیا تنداری کے ساتھ اپنی ذمے داری ادا کریں، حکومت نے آپ سے طے کیا ہوا ہے کہ آپ تنگنہ ڈیوٹی دیں گے اور اس کا اتنا معاوضہ آپ کو دیا جائے گا، اگر آپ ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے تو تنخواہ کس چیز کی لیں گے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - (المائدہ: 1)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! عہد پورے کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُوا أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (الأنفال: 27)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، جب کہ تم جانتے ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

المسلمون على شئرو طم - (صحیح الجامع: 6714)

مسلمانوں اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔

مندرجہ بالا آیات اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ معاہدے اور شرطوں کو پورا کرنا واجب ہے اور امانت میں خیانت کرنا حرام ہے۔

آپ دفتر میں نہ جائیں اور حاضری لگتی رہے، جو شخص حاضری لگانے میں آپ کی مدد کرے گا وہ بھی ناجائز کام کرے گا کیونکہ یہ غلط کام میں تعاون ہے اور غلط کام میں تعاون کرنا حرام ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَتَقَاوُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقَاوُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - (المائدہ: 2)

اور نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

اگر آپ حکومتی قوانین کی پیروی کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر چھٹی کی درخواست دیں، آپ کی چھٹی منظور کر لی جائے کہ جب تک دفتر میں کام نہیں ہے آپ کو ڈیوٹی سے استثناء حاصل ہے تو پھر آپ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ چھٹی لینے کے لیے رشوت وغیرہ دینا جائز نہیں ہے۔



والله أعلم بالصواب

محدث فتوى کمیٹی

01. فضیلۃ الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ
02. فضیلۃ الشیخ عبد الخالق حفظہ اللہ